



محترم شاہ محمود قریشی،

وزیر امور خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔

عنوان: اوورسیز پاکستانیوں کی میتوں کو پاکستان لانے اور پاکستان میں پھنسے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو واپس یورپ لے جانے کے لیے اقدامات کئے جائیں۔

جناب عالی!

یورپ میں مقیم پاکستانیوں کو کرونا وائرس کے تناظر میں پیدا ہونے والے مسائل میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ ان کے اجساد کو پاکستان لانا ہے۔

گذشتہ روز سے فرانس سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں ایک بیٹا (پاکستانی) یہ شکایت کر رہا ہے کہ ان کی والدہ کی میت پاکستان لے جانے کے لیے فرانس کی حکومت نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہے لیکن فرانس میں سفارتخانہ پاکستان اس میت کو پاکستان لے جانے کا اجازت نامہ نہیں دے رہا۔

شکایت کنندہ کے بقول، فرانس کے حکام نے حفظان صحت کے تمام اصولوں کے تحت میت کو پلاسٹک میں سیل کیا ہوا تاکہ کسی وائرس کے پھیلنے کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔

یورپ کے دیگر ممالک سے بھی اس طرح کی شکایت موصول ہو رہی ہیں جس سے اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ برائے مہربانی ان شکایات کی تحقیقات کی جائیں اور ضروری حفاظتی تدابیر کو مدنظر رکھتے ہوئے اجساد کو پاکستان لانے کے لیے اقدامات کئے جائیں تاکہ وہ لوگ اپنی رسوم و رواج کے تحت پاکستان میں اجساد کی تدفین کرسکیں۔

اس کے علاوہ، بین الاقوامی فلائیٹس بند ہوجانے کی وجہ سے ناروے سمیت یورپ کے مختلف ملکوں میں مقیم پاکستانی جو فروری اور مارچ میں پاکستان آئے ہوئے تھے، پاکستان میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے بیوی، بچے اور روزگار یورپ میں ہے جبکہ وہ پاکستان میں پابند ہو گئے ہیں۔ ان اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے ملکوں میں واپسی کے لیے فلائیٹس شروع کی جائیں۔

امید ہے کہ آپ ان دو گزارشات پر غور فرمائیں گے اور ان مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات جاری کریں گے۔

المرقوم: چار اپریل ۲۰۲۰

آپ کا خیر اندیش،

قمر اقبال،

چیئرمین پاکستان یونین ناروے۔

کاپی: جناب نوالفقار (نوفی) بخاری، معاون خصوصی، وزیراعظم پاکستان، اسلام آباد۔

Pakistan Union Norway (PUN), www.pakistanunionnorway.com Email: pakistanunionnorway@gmail.com

Mobile/Whatsapp: +47 46274016 Mobile in Pakistan+923434787878

Pakistan Forening Norge, Torg gata.29, 0183, Oslo, Norway.